

کتاب دانی ایل — نمبر ایک سو چوراسی

سبت و تجسد: ارکان بنیادین فرایند مہر شدن میلریتی

Jeff Pippenger

2024-04-14

آزمون نہایی برای نسل میلری، که در فرایند آزمایش ناکام ماند، در سال ۱۸۵۶، با رسیدن نور افزون تر بر «هفت زمان» در لاویان بیست و شش آغاز شد. از ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۳، پیام لائودیکه واپسین دورہ‌ای از زمان را در آن دورہ‌ای مشخص ساخت که با آمدن فرشتہ سوم در ۲۲ اکتبر ۱۸۴۴ آغاز شدہ بود. آن دورہ زمانی بہ وسیلہ آیات سیزدہ تا پانزدہ باب یازدہم دانیال بہ تصویر کشیدہ شدہ است.

آن دورہ زمانی نہ تنها بہ وسیلہ آن آیات، بلکہ همچنین بہ وسیلہ تاریخی کہ آن آیات را بہ انجام رسانید، و نیز بہ وسیلہ شہادت جغرافیایی پانیوم، کہ همان قیصریہ فیلیپی نیز ہست، بہ تصویر کشیدہ شدہ است. قیصریہ فیلیپی بہ قصد و آگاہانہ از سوئے مسیح اندکی پیش از صلیب مورد بازدید قرار گرفت، و صلیب نمایانگر قانون یکشنبہ است کہ در آیہ شانزدہم بہ تصویر کشیدہ شدہ است. در ۲۲ اکتبر ۱۸۴۴، شیر سبط یہودا آموزہ سبت را در نوری ویژہ مشخص ساخت. سپس در پایان آن فرایند آزمون، او افزایشی از معرفت را بر «هفت زمان» معرفی کرد، و «هفت زمان» در لاویان بیست و شش، آموزہ‌ای مربوط بہ سبت است. این همان حکم سبت آرام گرفتن زمین است کہ بہ طور مستقیم با حکم سبت آرام گرفتن انسان‌ها موازی است. نبوت زمانی دو ہزار و پانصد و بیست سال و دو ہزار و سیصد سال، ہر دو در ۲۲ اکتبر ۱۸۴۴ بہ پایان رسیدند.

آزمائش کے عمل کا آخری دور، 1856 سے 1863 تک، سبت کے بارے میں ایک زیادہ عظیم انکشاف تھا، جسے مہر لگانے اور آزمائش کے عمل کے آغاز ہی میں خاص روشنی میں رکھا گیا تھا۔ دانی ایل گیارہ کی آیات تیرہ سے پندرہ کی تکمیل سے ظاہر ہونے والی تاریخ اُس آزمائشی دور کی نمائندگی کرتی ہے جس میں خدا کی مہر ایک لاکھ چوالیس ہزار پر ابدیت کے لیے ثبت کی جاتی ہے۔ اُسی تاریخ میں حزقی ایل کی دو لاٹھیاں ایک ہو جاتی ہیں۔ ان دو لاٹھیوں کا ایک ہونا الوہیت کے انسانیت کے ساتھ امتزاج کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ عقیدہ جو اُس تاریخ میں خاص روشنی کے ساتھ چمکتا ہے، تجسد کا عقیدہ ہے۔

بہ ہمین سبب، ہنگامی کہ پطرس در قیصریہ فیلیپی مسیح را پسر خدا شناخت، اذعان می‌کرد کہ مسیح، بہ عنوان پسر خدا، بیانگر طبیعت دوگانہ اوست: اینکه او پسر الہی خدا بود کہ جسد انسانی بر خود گرفت و بدین سان پسر انسان شد.

«آنگاہ کہ شاگردان نبوت‌هایی را کہ بر مسیح شہادت می‌دادند جست‌وجو می‌کردند، بہ مشارکت با الوہیت رہنمون شدند و دربارہ او آموختند؛ او کہ بہ آسمان صعود کردہ بود تا کاری را کہ بر زمین آغاز کردہ بود بہ کمال رساند. آنان این حقیقت را دریافتند کہ در او دانشی ساکن بود کہ ہیچ انسان، بی‌مدد عامل الہی، قادر بہ درک آن نبود. آنان بہ یاری کسی نیاز داشتند کہ پادشاہان و انبیا و مردان عادل دربارہ او پیشگویی کردہ بودند. با شگفتی، توصیف‌های نبوی شخصیت و کار او را بارہا و بارہا می‌خواندند. چہ اندازہ مبہم کتب نبوی را فہمیدہ بودند! و چہ اندازہ در دریافت حقایق عظیمی کہ بر مسیح شہادت می‌دادند، کند بودہ بودند! چون او را در خواری‌اش می‌نگریستند، آنگاہ کہ چون انسانی در میان انسان‌ها راہ می‌رفت، راز تجسد او و سرشت دوگانہ طبیعتش را دریافتہ بودند. چشمان ایشان بستہ نگاہ داشتہ شدہ بود، تا الوہیت را در انسانیت بہ تمامی تشخیص ندهند. اما پس از آنکہ بہ وسیلہ روح القدس منور شدند، چہ اندازہ مشتاق بودند کہ بار دیگر او را ببینند و خود را نزد پاهای او بیفکنند!» آرزوی اعصار، 507.

22 اکتوبر 1844 سے لے کر 1863 تک کا زمانہ ایک لاکھ چوالیس ہزار کے مہر کیے جانے کا وقت ظاہر کرتا ہے۔ یہ مدت اُس وقت شروع ہوئی جب مہر کیے جانے کے عرصے میں اُن بہت سی سچائیوں کے درمیان، جو کھولی جاتی ہیں، سبت کو خاص سچائی کے طور پر نمایاں کیا گیا۔ اس مدت نے ساتویں نرسنگ کے بجنے کا آغاز کیا، جو اس وقت کی نشان دہی کرتا ہے جب خدا کا بھید پورا کیا جانا تھا۔

اما در ایام صدای فرشتہ ہفتم، ہنگامی کہ او آغاز بہ نواختن کند، سرّ خدا بہ انجام خواهد رسید، چنان کہ آن را بہ بندگان خود، انبیا، اعلام فرمودہ است۔ مکاشفہ ۱۰:۷

ہفتمین فرشتہ ہمچنین سومین وای است، زیرا مہر نہادن در آن برہہ از تاریخ رخ می دہد کہ جنگاوری اسلام فعال است۔ اگر آدونتیسیم میلریتی در دورہای کہ پس از ۲۲ اکتبر ۱۸۴۴ فرا رسید وفادار ماندہ بود، اسلام کہ در ۱۱ اوت ۱۸۴۰ مہار شدہ بود، رہا می گردید۔

«اگر آدونتیسٹ ہا پس از نومیدی عظیم سال ۱۸۴۴، ایمان خود را استوار نگاہ می داشتند و بہ طور متحدانہ در پی عنایت آشکارشوندہ خدا پیش می رفتند، پیام فرشتہ سوم را می پذیرفتند و آن را در قدرت روح القدس بہ جہان اعلام می کردند، نجات خدا را می دیدند، خداوند بہ گونه ای عظیم با کوشش های ایشان عمل می کرد، کار بہ انجام می رسید، و مسیح تا کنون آمدہ بود تا قوم خود را برای پاداششان برگزیند۔ اما در دورہ شک و عدم یقین کہ در پی آن نومیدی آمد، بسیاری از ایمانداران آدونتیسٹ ایمان خود را از دست دادند۔۔۔ بدین سان کار بہ تأخیر افتاد و جہان در تاریکی وا گذاشتہ شد۔ اگر تمام جماعت آدونتیسٹ بر احکام خدا و ایمان عیسی متحد می شدند، تاریخ ما تا چہ اندازہ متفاوت می بود!» Evangelism, 695

در ۲۲ اکتبر ۱۸۴۴، شیپور ہفتم نواختہ شدن را آغاز کرد و شیپور یوبیل نیز بہ صدا درآمد۔

اور تو اپنے لیے برسوں کے سات سبت شمار کرنا، یعنی سات بار سات برس؛ اور برسوں کے ان سات سبتوں کی مدت تیرے لیے اُنچاس برس ہو۔ پھر ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تو یوبیل کے نرسنگے کو بجوا دینا؛ یعنی کفارہ کے دن تم اپنے تمام ملک میں نرسنگا بجوانا۔ اور تم پچاسویں برس کو مقدس ٹھہرانا، اور اُس کے سب باشندوں کے لیے تمام ملک میں آزادی کا اعلان کرنا؛ وہ تمہارے لیے یوبیل ہوگا؛ اور تم میں سے ہر شخص اپنی ملکیت میں واپس آئے، اور ہر شخص اپنے خاندان میں لوٹ جائے۔ احبار 25:8-10

كله چې د يو سل او څلوېښت زرو د مهر لگولو زمانه پيلېږي، يوه شپېلۍ غږېږي چې دا په گوته كوي هغه جگړه چې اسلام يې ترسره كړې ده، رارسېدلې ده؛ او بله شپېلۍ د هغو لپاره ازادي اعلانوي چې د گناه غلامان وو. يوه شپېلۍ بهرنۍ تاريخ مشخصوي، او بله د هغو وروستيو ورځو د عهد د خلكو داخلي تجربه انځوروي. د دوی غلامي هغه مهال لېرې كېږي كله چې د دوی انسانيت د تل لپاره د هغه له الوهيت سره يوځای شي. كرښه پر كرښه، دا دواړه شپېلۍ يوه شپېلۍ دي، څكه چې د يوبيل شپېلۍ يوازې د كفارې په ورځ پوكل كېږي، او د كفارې ورځ هغه مهال پيلېږي كله چې د درېيمې بلا اوومه شپېلۍ وغږول شي. هغه عقیده چې د ميلریتی خوځښت په ترڅ كې د دواړو شپېليو استازولي يې كوله، د سبت رڼا وه. هغه رڼا چې په دغو وروستيو ورځو كې د دواړو شپېليو استازولي كوي، د تجسد عقیده ده. كرښه پر كرښه، سبت او د تجسد عقیده يوه او هماغه عقیده ده.

اعتراف پطرس، هم مسیح را معرفی کرد و هم پسر خدا را. مسیح، پسر خداست. مسیح همان آفریننده ای است که سبت نمایانگر اوست.

«پولس هرگز مسیح را در زمانی که او بر زمین ساکن بود ندیده بود. هرچند درباره او و کارهایش شنیده بود، اما نمی توانست باور کند که مسیح ای موعود، آفریننده همه عالم ها، بخشنده همه برکات، بر زمین در هیات انسانی صرف ظاهر شود.» Sketches from the Life of Paul, 256

سبت خالق را معرفی می‌کند، و آن خالق همان مسیحی بود که پطرس او را معرفی کرد. پسر خدا، که پطرس او را معرفی کرد، همان کسی است که با جسم انسانی متحد شد تا پسر انسان گردد. پسر خدا بیانگر تجسد است.

մարդկանց՝ թե՛ տղամարդկանց, թե՛ կանանց, հաղթահարելու զորություն 226:»
բերեց: Նա այս աշխարհ եկավ մարդկային կերպարանքով, որպեսզի մարդկանց
մեջ որպես մարդ ապրի: Նա իր վրա վերցրեց մարդկային բնության
պարտավորություններն ու սահմանափակումները, որպեսզի փորձվի և քննվի:
Իր մարդկայնության մեջ Նա աստվածային բնության մասնակից էր: Իր
մարմնավորման մեջ Նա նոր իմաստով ձեռք բերեց Աստծո Որդու կոչումը:
Հրեշտակը Մարիամին ասաց. «Բարձրյալի զորությունը պիտի հովանի քեզ.
ուստի այն Սուրբը, որ քեզանից պիտի ծնվի, պիտի կոչվի Աստծո Որդի» (Ղուկաս
1:35): Թեև մարդկային էակի Որդին էր, Նա նոր իմաստով դարձավ Աստծո Որդի:
Այսպիսով Նա կանգնեց մեր աշխարհում Աստծո Որդին, սակայն ծնունդով
միացած մարդկային ցեղին»: Selected Messages, գիրք 1, 226:»

در قیصریه فیلیپی، اقرار دوگانه پطرس نماینده آن یکصد و چهل و چهار هزار نفر بود که درمی‌یابند عیسی همان مسیح، پسر خداست، و نیز آموزه سبت را که در سال ۱۸۴۴ روشن‌تر گردید، همراه با آموزه تجسد را که در ایام آخر شناخته می‌شود، درمی‌یابند. نور این حقیقت دوگانه در آغاز و انجام دوره مهر شدن گشوده می‌شود، چنان‌که تاریخ مهر شدن از ۲۲ اکتبر ۱۸۴۴ تا ۱۸۶۳، و تاریخ دو صدای باب هجدهم مکاشفه، بر آن گواهی می‌دهند.

در هر دو خط میلی فرایند مهر شدن، و خط نبوی مهر شدن در مکاشفه هجده، در پایان بسیار دوره آزمونی وجود دارد که در آن یک گروه به‌عنوان باکره‌گان جاهل آشکار می‌شوند، چنان‌که از ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۳ چنین بود، و گروهی از ژوئیه ۲۰۲۳ تا قانون یکشنبه‌ای که به‌زودی خواهد آمد، به‌عنوان باکره‌گان عاقل آشکار می‌شوند. آن دوره نهایی آزمون، آغاز دوره را تکرار می‌کند. همان فرشته‌ای که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نازل شد، در ۲۰۲۳ به‌عنوان میکائیل آمد تا مردگان را به حیات فراخواند، بعضی را به حیات جاودانی و بعضی را به موت جاودانی. چون او آمد، قوم خود را به بنیادها بازگردانید. برخی از سلوک در راه‌های قدیم سر باز می‌زنند، برخی در راه‌های قدیم سلوک می‌کنند. برخی به آواز کرنا گوش می‌سپارند، برخی از شنیدن امتناع می‌ورزند.

پس خداوند چنین می‌فرماید: «بر سر راه‌ها بایستید و بنگرید، و از راه‌های کهن بپرسید که راه نیکو کدام است، و در آن سلوک کنید؛ و برای جان‌های خویش آرامی خواهید یافت.» اما ایشان گفتند: «در آن سلوک نخواهیم کرد.» و دیدبانانی بر شما گماشتم که گفتند: به آواز کرنا گوش فرا دهید.» اما ایشان گفتند: «گوش نخواهیم داد.» ارمیا ۱۶:۶، ۱۷

پیامی که به‌وسیله شیپوری که دیدبانان می‌نوازند نمایان می‌گردد، دوگانه است. آن، هم شیپور هفتم اسلام است و هم شیپور یوبیل رهایی. این، پیام اتحاد الوهیت با انسانیت است که به‌واسطه سر تجسد تحقق می‌یابد، و شخصیتی پدید می‌آورد مهیا برای مهر خدا، که همان سبت است. این پیام، این کار، و اوضاع و احوال مرتبط با آن دوره نهایی مهرگذاری که در ژوئیه ۲۰۲۳، بیست‌ودو سال پس از ۲۰۰۱، آغاز شد، در آیات سیزده تا پانزده باب یازدهم دانیال، و نیز در دیدار مسیح از قیصریه فیلیپی در باب شانزدهم متی، به تصویر کشیده شده است.

در مثل ده باکره، همه باکره‌ها در مدت تأخیر به خواب رفتند. عیسی به شاگردان خود گفت که ایلعازر خفته است.

این چیزها را گفت؛ و پس از آن به ایشان فرمود: دوست ما ایلعازر خفته است؛ لیکن من می‌روم تا او را از خواب بیدار کنم. آنگاه شاگردانش گفتند: خداوندا، اگر خفته است، بهبود خواهد یافت. اما عیسی از مرگ او سخن می‌گفت؛ و ایشان پنداشتند که از آرام گرفتن در خواب سخن گفته است. پس عیسی آشکارا به ایشان فرمود: ایلعازر مرده است. یوحنا ۱۱:۱۰-۱۴.

در پایان بیست و یک روز، دانیال رؤیا را دید، و در خوابی عمیق فرو رفته بود.

اور میس، دانی ایل، اکیلا پی اُس رؤیا کو دیکھا؛ کیونکہ جو آدمی میرے ساتھ تھے انہوں نے وہ رؤیا نہ دیکھی، لیکن اُن پر ایک بڑی کپکپی طاری ہوئی، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بھاگ گئے۔ پس میں اکیلا رہ گیا، اور اُس عظیم رویا کو دیکھا، اور مجھ میں کچھ بھی قوت نہ رہی؛ کیونکہ میری شادابی مجھ میں بگڑ کر فساد ہو گئی، اور مجھ میں کچھ بھی طاقت باقی نہ رہی۔ تو بھی میں نے اُس کے کلام کی آواز سنی؛ اور جب میں نے اُس کے کلام کی آواز سنی تو میں اپنے منہ کے بل گہری نیند میں تھا، اور میرا منہ زمین کی طرف تھا۔ دانی ایل 10:7-9.

دو شاہد باب یازدهم مکاشفہ، سہ روز و نیم در کوچہ افتادہ مردہ بودند، و استخوان‌های مردہ حزقیال در وادی بودند. در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۰، زمان درنگ مرگ روحانی و خفتن بر باکرگان جنبش فرشتہ سوم عارض گردید. سہ سال بعد، فرایند بیدار ساختن و مہیا کردن قوم آخرالزمانی خدا بہ منزلہ علم او و لشکر عظیم او آغاز شد. فرشتہ‌ای کہ در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۰ نازل شد، حقیقتی را از مہر گشود، چنان کہ فرشتگان ہرگاہ نازل می‌شوند، ہموارہ چنین می‌کنند.

حقیقتی کہ او مہرگشایی کرد، تجربہ زمان تأخیر و نخستین نومیدی بود. قوم خدا در ایام آخر در آن ہنگام پراکنده بودند، و ہنگامی کہ فرایند بیدار ساختن ایشان در تاریخ فرا می‌رسید، از آنان خواستہ می‌شد کہ تشخیص دہند و اقرار کنند کہ پراکنده ہودہ اند و در زمان تأخیر بہ سر می‌برند. پس آنگاہ فرشتگان بسیار، یا پیام‌های بسیار، فرستادہ شد تا پیام زمان تأخیر را تقویت کنند.

«در نزدیکی پایان پیام فرشتہ دوم، دیدم نوری عظیم از آسمان بر قوم خدا می‌تابید. پرتوهای این نور همچون خورشید درخشان می‌نمود. و آوازهای فرشتگان را شنیدم کہ ندا می‌دادند: «اینک داماد می‌آید؛ بہ استقبال او بیرون روید!»»

«این همان فریاد نیمہ شب بود کہ می‌بایست بہ پیام فرشتہ دوم قدرت ببخشد. فرشتگانی از آسمان فرستادہ شدند تا مقدسان دلسرد را بیدار سازند و ایشان را برای کار عظیمی کہ پیش رویشان بود آمادہ کنند. با استعدادترین مردان نخستین کسانی نبودند کہ این پیام را دریافت کردند. فرشتگان نزد فروتنان و وقف شدگان فرستادہ شدند و آنان را برانگیختند تا این ندا را بلند کنند: "اینک داماد می‌آید؛ بہ استقبال او بیرون روید!" آنان کہ این ندا بہ ایشان سپردہ شدہ بود، شتاب کردند و در قدرت روح القدس پیام را اعلان نمودند و برادران دلسرد خود را بیدار ساختند. این کار بر حکمت و دانش انسان‌ها استوار نبود، بلکہ بر قدرت خدا؛ و مقدسان او کہ این ندا را شنیدند، نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند. روحانی‌ترین افراد نخست این پیام را پذیرفتند، و آنان کہ پیش‌تر در این کار پیشگام بودند، آخرین کسانی بودند کہ آن را پذیرفتند و بہ بلندتر شدن این ندا یاری رساندند: "اینک داماد می‌آید؛ بہ استقبال او بیرون روید!"»

«در ہر بخش از آن سرزمین، دربارہ پیام فرشتہ دوم نور دادہ شد، و آن ندا دل‌های ہزاران تن را نرم ساخت. این پیام از شہری بہ شہری، و از روستایی بہ روستایی رفت، تا آنکہ قوم منتظر خدا بہ طور کامل بیدار شدند. در بسیاری از کلیساہا اجازہ دادہ نشد کہ این پیام اعلام گردد، و گروہ بزرگی کہ شہادت زندہ را داشتند، این کلیساہای سقوط کردہ را ترک کردند. بہ وسیلہ فریاد نیمہ شب، کاری عظیم بہ انجام رسید. این پیام کاوشگر دل‌ہا بود و ایمانداران را برمی‌انگیخت تا برای خود تجربہ‌ای زندہ بجویند. آنان می‌دانستند کہ نمی‌توانند بر یکدیگر تکیہ کنند.» Early.

ورود پیام «فریاد نیمه شب» در مَثَل، زمانی را مشخص می سازد که در آن، آشکار می شود آیا دو گروه باکره ها روغن دارند یا نه. دانایان روغن دارند؛ نادانان ندارند. این مَثَل در تاریخ میلریتی، به وسیله کار ساموئل اسنو تحقق یافت، و در آن کار، پیامی که اسنو عرضه کرد، همان گونه که در مقالات او در نشریات میلریتی آن دوره نمایان است، بسط و توسعه یافت. سپس هنگامی که او به گردهمایی اردویی اکستر رسید، که از ۱۲ تا ۱۷ اوت ۱۸۴۴ بود، دوره ای نیز بازنمایی می شود که سرانجام به آن انجامید که حاضران در آن گردهمایی، پس از ترک گردهمایی، آن پیام را اعلام کنند.

ایک "وقت کا معین نکتہ" ہے جب نصف اللیل کی پکار کا پیغام پوری طرح قائم ہو جاتا ہے، اور اُس نکتے پر، تمثیل کے مطابق، کنواریوں پر مہلت آزمائش بند ہو جاتی ہے۔ اُس "وقت کے معین نکتے" سے پہلے "ایک مدت" آتی ہے جس میں یہ پیغام نشوونما پاتا ہے۔ جولائی 2023 سے نصف اللیل کی پکار کا پیغام نشوونما پاتا رہا ہے، اور میلیری وفا کی تکمیل کے برخلاف، "مہلت آزمائش کے اختتام" سے پہلے یہ پیغام پوری دنیا میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ جب ایکسٹر کے اجتماع کے اختتام پر مہلت آزمائش بند ہوئی، تو پھر یہ پیغام "ملک کے ہر حصے" تک پہنچا، اور "دوسرے فرشتے کے پیغام پر روشنی دی گئی، اور اس پکارنے ہزاروں کے دلوں کو گداز کر دیا۔ یہ شہر بہ شہر، اور گاؤں بہ گاؤں پھیل گئی، یہاں تک کہ خدا کے منتظر لوگ پوری طرح بیدار ہو گئے۔"

در تاریخ کنونی ما، پیامی که انتشار آن در ژوئیهٔ ۲۰۲۳ آغاز شد، اکنون در یکصد و بیست کشور جهان حضور دارد، و مقالاتی که نمایانگر تکامل پیام فریاد نیمه شب هستند، به بیش از شصت زبان در دسترس اند، و این مقالات را می توان یا خواند یا به آنها گوش سپرد.

مکاشفہٗ یسوع مسیح، جو خدا نے اُسے لیے عطا کیا کہ اپنے بندوں پر وہ باتیں ظاہر کرے جو عنقریب واقع ہونے والی ہیں؛ اور اُس نے اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے ایسے اپنے بندہ یوحنا پر بھیج کر ظاہر کیا: جس نے خدا کے کلام، اور یسوع مسیح کی گواہی، اور ان سب باتوں کی گواہی دی جو اُس نے دیکھیں۔ مبارک ہے وہ جو پڑھتا ہے، اور وہ جو اس نبوت کی باتیں سنتے ہیں، اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو اس میں لکھی ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مکاشفہ 1:3-1-3.

نور این پیام، چنان که در قالب مقالات عرضه شده است، در حدود شش ماه به وسیلهٔ دو نفر به انجام رسیده است.

Նրանք, ովքեր կարող են օգնել —, չարթնանան իրենց պարտքի 300» գիտակցությամբ, ապա չեն ճանաչի Աստծո գործը, երբ հնչի երրորդ իրեշտակի բարձրաձայն աղաղակը: Երբ լույսը ծագի՝ լուսավորելու երկիրը, Տիրոջ օգնությանը հասնելու փոխարեն, Նրանք կուզենան կաշկանդել Նրա գործը, որպեսզի այն համապատասխանեցնեն իրենց նեղ պատկերացումներին: Թող ասեմ ձեզ, որ Տերը այս վերջին գործում պիտի գործի մի կերպ, որ շատ հեռու կլինի իրերի սովորական կարգից, և մի ճանապարհով, որ հակառակ կլինի ամեն մարդկային ծրագրավորման: Մեր միջից կլինեն այնպիսիք, ովքեր միշտ կցանկանան վերահսկել Աստծո գործը, թելադրել նույնիսկ, թե ինչպիսի շարժումներ պիտի արվեն, երբ գործը առաջ գնա այն իրեշտակի առաջնորդությամբ, որը միանում է երրորդ իրեշտակին՝ աշխարհին տրվելիք պատգամով: Աստված կգործածի այնպիսի ուղիներ և միջոցներ, որոնց միջոցով կերևա, որ Նա ինքն է ղեկը վերցնում իր ձեռքը: Գործավորները պիտի զարմանան այն պարզ միջոցներից, որոնք Նա կգործածի՝ իրականացնելու և կատարելության հասցնելու իր արդարության գործը»: Testimonies to Ministers,

شیر سبط یہوداہ اب اپنے آخری ایام کے لوگوں کو دانی ایل باب گیارہ کی آیات تیرہ سے پندرہ تک لے آیا ہے، اور اُس تاریخ کو کھول رہا ہے جس کی نمائندگی 200 قبل مسیح سے 63 قبل مسیح تک کی تاریخ کرتی ہے، نیز متی باب سولہ اور قیصریہ فلپی میں مسیح کی آمد کی تاریخ کو بھی پیش گوئیاں اور اُن کی تکمیل کی تاریخ—دونوں—دانی ایل کی اُس کتاب کے حصے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں جو آخری ایام تک مہر بند رہی۔ دانی ایل اور مکاشفہ کی کتابیں دراصل ایک ہی کتاب ہیں؛ لہذا آخری ایام میں، بند آزمائش کے اختتام سے ذرا پہلے، یسوع مسیح کا مکاشفہ کھولا جاتا ہے، اور اُس مکاشفہ میں دانی ایل کا وہ حصہ بھی شامل ہے جو آخری ایام سے متعلق ہے۔ اب ایکسیٹر کیمپ میٹنگ کے اختتام کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔

اور اُس نے مجھ سے کہا، اِس کتاب کی نبوت کی باتوں پر مہر نہ لگا، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو ناراست ہے، وہ ناراست ہی بنا رہے؛ اور جو ناپاک ہے، وہ ناپاک ہی بنا رہے؛ اور جو راستباز ہے، وہ راستباز ہی بنا رہے؛ اور جو مقدس ہے، وہ مقدس ہی بنا رہے۔ مکاشفہ 22:10، 11۔

ما این مطالعه را در مقاله بعدی ادامه خواهیم داد.

هان، ایامی می آید، می گوید خداوند یهوه، کہ در زمین قحطی ای خواهم فرستاد؛ نه قحطی نان و نه تشنگی آب، بلکه قحطی شنیدن کلام خداوند. و از دریا تا دریا سرگردان خواهند شد، و از شمال تا به مشرق این سو و آن سو خواهند دوید تا کلام خداوند را بجویند، اما آن را نخواهند یافت. در آن روز، دوشیزگان زیباروی و جوانان از تشنگی بی حال خواهند شد. آنان که به گناه سامره سوگند می خورند و می گویند: «ای دان، خدای تو زنده است»، و «شیوه بئرشبع زنده است»، همانان خواهند افتاد و دیگر هرگز برنخواهند خاست. عاموس ۸: ۱۱-۱۴